

English Urdu Sentences – SET 1

I'll be ready in two minutes.

میں دو منٹ میں تیار ہوں گا۔

He has turned pauper.

وہ کنگال ہو گیا ہے۔

I won't do that either.

میں بھی یہ نہیں کروں گا۔

It's a great place to live.

یہ رہنے کے لئے بڑی اچھی جگہ ہے۔

Let's get going.

چلیے شروع کرتے ہیں۔

I am a bit worried today.

میں آج تھوڑا پریشان ہوں۔



English Urdu Sentences – SET 1

I don't know where he is.
مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔

I have never done it before.
میں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔

No, not yet.
نہیں، ابھی نہیں۔

I know a bit about it.
مجھے اس بارے میں تھوڑا پتا ہے۔

Look it up on internet.
انٹرنیٹ پر تلاش کر لو

I have got some work to do.
مجھے کچھ کام کرنا ہے۔

I'd like to have a cup of tea.
میں ایک کپ چائے لینا چاہوں گا۔



English Urdu Sentences – SET 1

Where had he been?

وہ کہاں تھا؟

Nobody really knows.

کسی کو نہیں پتا۔

I am bilingual.

میں دو زبانیں بولتا ہوں۔

I am glad to see you here.

آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔

What's wrong with it?

اس میں مسئلہ کیا ہے؟

I'll have to look for it.

مجھے (یہ) ڈھونڈنا پڑے گا۔

That shouldn't happen.

ایسا نہیں ہونا چاہیے۔

You have to do the talking.

بات تمہیں کرنی ہوگی۔



English Urdu Sentences – SET 2

Why are you bent on going there?

آپ وہاں جانے کے لیے کیوں تلے ہوئے تھے۔

We must abstain from smoking.

آپ کو سگریٹ نوشی سے بچنا چاہیے۔

He was sure of success..

اسے کامیابی کا پورا یقین تھا۔

How tragic!.

کتنی تکلیف دہ بات ہے!

Please make yourself comfortable.

آرام سے بیٹھیے۔

We got fed up with this behavior.

ہم اس کے رویے سے اکتا گئے۔

He is gifted with a talent of painting.

وہ مجھے وہاں جانے سے روکتا ہے۔

Some people prefer wealth to health.

کچھ لوگ صحت کا نقصان کر کے پہسہ کھاتے ہیں۔



English Urdu Sentences – SET 1

Please don't get disturbed by this news.

آپ اس خبر سے گھبرا ئیے نہیں۔

Sara is deaf in one ear.

سارہ ایک کان سے بہری ہے

He is addicted to smoking.

وہ سگریٹ نوشی کا عادی ہو گیا ہے۔

His criticism is not based on facts.

اس کی تنقید حقیقت پر مبنی نہیں۔

Please make yourself comfortable.

آرام سے بیٹھیے۔

He was highly amused by my story.

میری کہانی سن کر اسے بڑا لطف آیا۔

That shouldn't happen.

ایسا نہیں ہونا چاہیے۔

You must polite in your behavior.

تمہیں اپنے رویے میں نرم ہونا چاہیے۔



English Urdu Sentences – SET 3

It's nine day's wonder.

اسکا چرچہ چند دن ہی رہے گا۔

He is fully aware of his weakness.

وہ اپنی کمزوری اچھی طرح جانتا ہے۔

I never heard the like.

میں نے ایسی کمال بات پہلے نہیں سنی۔

He acted contrary to the rules.

اس نے قاعدے کے خلاف رویہ اختیار کیا۔

Take it off your mind.

یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔

She can't help laughing.

وہ ہنسنے بغیر نہیں رہ سکتی۔



English Urdu Sentences – SET 3

It took me 3 days to get there?

وہاں پہنچنے میں مجھے تین دن لگے گے۔

Who are you meet to here?

آپ کو یہاں کس سے ملنا ہے۔

Show him out.

اسے باہر کاراستہ دکھاؤ۔

I went there but I saw no body.

میں وہاں گیا تھا پر مجھے کوئی نہیں دکھا۔

I know how to draw my money.

مجھے اپنے پیسے نکوانے آتے ہیں۔

Let's get going.

چلیے شروع کرتے ہیں۔



English Urdu Sentences – SET 3

You might have informed me.
تم نے مجھے بتایا تو ہوتا۔

You had better keep silent.
بہتر ہو گا اگر تم خاموش رہو۔

All beyond my understanding.
یہ سب میری سمجھ سے باہر ہے۔

Get back.
پچھے ہٹ جاؤ۔

I don't want to make trouble.
میں مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتا۔

Have him in.
اسے اندر بٹھاؤ۔



English Urdu Sentences – SET 4

Watch out!

ہوشیاری سے، سنبھل کر!

I'll go back

میں واپس جاؤں گا۔

Lend me a hand please.

ذرا ہاتھ لگانا۔

What have you seen in London?

تم نے لندن میں کیا دیکھا؟

Throw the ball over the wall.

گیند کو دیوار سے اوپر پھینکو۔

No, not yet.

نہیں، ابھی نہیں۔



English Urdu Sentences – SET 4

Do come.

ضرور آنا۔

I liked what you have you liked.

مجھے وہی پسند ہے جو تمہیں پسند آیا ہے۔

Touch wood!

! کہیں نظر نہ لگ جائے

They are foreign

وہ غیر ملکی ہیں۔

Boats are flying over the bridge.

کشتیاں پل کے نیچے ہیں۔

I am a bit worried today.

میں آج تھوڑا پریشان ہوں۔



English Urdu Sentences – SET 4

We haven't heard this news.

ہم نے یہ خبر کبھی نہیں سنی۔

We are in confused.

ہم تذبذب میں ہیں

Who is inside?

اندر کون ہے؟

Speech than the hall began.

ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔

What's wrong with it?

اس میں مسئلہ کیا ہے؟

She is too weak to walk.

وہ اتنی کمزور ہے کہ چل نہیں سکتی۔



English Urdu Sentences – SET 4

Please don't be formal.

تکلیف کی ضرورت نہیں۔

What movie is on today?

آج کو نسی پیکچر لگی ہے؟

Did you write this essay at night?

کیا رات کو تم نے یہ مضمون لکھا؟

How did you go to Landon?

تم شملہ کیسے گئے؟

She is wiser than me.

وہ مجھ سے زیادہ عقلمندی ہے۔

Let's get going.

چلیے شروع کرتے ہیں۔



English Urdu Sentences – SET 5

He is staying here since yesterday.

وہ کل سے یہاں رہ رہا ہے۔

She was not in Karachi.

وہ کراچی میں نہ تھی۔

Hope you are enjoying yourself.

امید ہے آپ مزے میں ہونگے۔

Speak your mind.

اپنے دل کی بات کہو۔

Please be seated.

بیٹھیے۔

She can't help laughing.

وہ ہنسنے بغیر نہیں رہ سکتی۔



English Urdu Sentences – SET 5

No, I have to go yet.

نہیں مجھے ابھی جانا ہے۔

What a bother!

کیا مصیبت ہے!

Send this packet by courier.

یہ پیکٹ کوریئر سے بھیج دو۔

Sara is front of Ali.

سارہ علی سے آگے ہے۔

Lend me a hand please.

ذرا ہاتھ لگانا۔

They are foreign

وہ غیر ملکی ہیں۔



English Urdu Sentences – SET 5

He was here yesterday.

وہ کل یہاں پر تھا۔

Donate generously.

دل کھول کر خیرات کرو۔

What come may!

اب چاہے جو ہو!

The higher you go the colder it is.

جتنا اونچا چڑھیں اتنی ٹھنڈک بڑھتی ہے۔

Wait outside.

باہر انتظار کرو۔

Show is about to start.

شو شروع ہونے والا ہی ہے۔



English Urdu Sentences – SET 5

You should attend the classes more
regularly

تمہیں کلاس میں زیادہ پابندی سے جانا چاہیے۔

Sara was reading while walking.

سارہ چلتے چلتے پڑھ رہی تھی۔

Who can do this work?

کون یہ کام کر سکتا ہے؟

Go up.

اوپر جاؤ۔

Neither Ali nor his brother playing in this
park.

نہ علی اور نہ اسکا بھائی اس پارک میں کھیلتے ہیں۔



English Urdu Sentences – SET 6

Go straight!

سیدھا جاؤ۔

If she were mistaken, I'd scold her.

اگر اسکی غلطی ہوئی تو میں اسکو ڈانٹوگا۔

He also goes school.

وہ بھی اسکول جاتا ہے۔

Doesn't his father speak English?

کیا اسکا ابوا انگلش نہیں بولتا؟

Keep quite

خاموش رہو۔

She is wiser than me.

وہ مجھ سے زیادہ عقلمندی ہے۔



English Urdu Sentences – SET 6

Come near

پاس آؤ۔

She had me cut the grass.

انہوں نے مجھ سے گھاس کٹوائی۔

It is darky today.

آج بادل چھائے ہوئے ہیں۔

He doesn't have sense.

کیا اسے عقل نہیں ہے۔

Not a bit.

تھوڑا سا بھی نہیں۔

Watch out!

ہوشیاری سے، سنبھل کر!



English Urdu Sentences – SET 6

Who told you that?

تمہیں ایسا کس نے بتایا؟

Use anything else.

کسی اور چیز کو استعمال میں لاؤ۔

Were you out for shopping yesterday?

کیا کل تم بازار گئے تھے؟

Did he used to pester you?

کیا وہ تمہیں تنگ کیا کرتا تھا۔

She doesn't like to look at me.

وہ میری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی۔

What movie is on today?

آج کونسی سیکچر لگی ہے؟



English Urdu Sentences – SET 6

If you did so I'd tell the police.

اگر تم ایسا کرو گے تو میں پولیس کو بتا دوں گا۔

Use your wits.

ذہن میں تھوڑا زور ڈالو۔

Had you met Sara anywhere before?

کیا تم سارہ سے پہلے مل چکے ہو۔

All this had happened.

یہ سب ہو چکا تھا۔

Be careful

ہوشیار رہو۔

Lend me a hand please.

ذرا ہاتھ لگانا۔



English Urdu Sentences – SET 7

Go down

نیچے جاؤ۔

Where are you going?

تم کہاں جا رہے ہو؟

Look at me.

میری طرف دیکھو۔

Go and get that man.

جاؤ اور اس آدمی کو پکڑو۔

You might have tipped me the wink.

تم نے مجھے آنکھ کا اشارہ ہی کر دیا ہوتا۔

Who can do this work?

کون یہ کام کر سکتا ہے؟



English Urdu Sentences – SET 7

There is nobody in the office.

دفتر میں کوئی نہیں تھا۔

Leave off work now.

اب کام بند کرو۔

Does Sara come your home?

کیا سارا تمہارے گھر آتی ہے؟

You got me wrong.

تم نے مجھے غلط سمجھ لیا ہے۔

He has left no respect.

اسکی کچھ عزت باقی نہیں رہے گی۔

What come may!

اب چاہے جو ہو!



English Urdu Sentences – SET 7

What happened?

کیا ہوا؟

For your good health!

اچھی صحت کے لیے۔

Don't take long.

دیر مت لگانا۔

He works from morning to night.

وہ صبح سے رات تک کام کرتا ہے۔

He has turned pauper.

وہ کنگال ہو گیا ہے۔

I won't do that either.

میں بھی یہ نہیں کروں گا۔



English Urdu Sentences – SET 7

Go at once

فوراً جاؤ۔

He may have been sleeping.

ہو سکتا ہے وہ سوتا رہا ہو۔

Would that she said yes.

کاش وہ ہاں کر دے۔

See you tomorrow

کل ملیں گے۔

As you like

جیسے آپ کی مرضی۔

She is wiser than me.

وہ مجھ سے زیادہ عقلمندی ہے۔



English Urdu Sentences – SET 8

You will receive his letter within
three days.

آپ کو اسکا خط تین دن میں مل جائے گا۔

When Sara comes Ali left.

جب سارا آئی تو علی چلا گیا۔

Snow is scattered over the river.

برف سڑک پر پھیلی ہے۔

Time is money.

وقت قیمتی ہے۔

It's been a long time since we meet.

بہت دنوں بعد ملے۔



English Urdu Sentences – SET 8

We must work in order to live.

ہمیں جینے کے لئے کام کرنا ہوگا۔

Each of these boys plays game.

ان لڑکوں میں سے ہر ایک کھیل کھیلتا ہے۔

There is green paint on the door.

دروازے میں سبز رنگ ہے۔

Both my hands have been injured.

میرے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔

I reached there around 3 o'clock.

میں وہاں لگ بھگ تین بجے پہنچا۔

He succeeded by dint of hard work.

وہ سخت محنت کے نتیجے میں کامیاب ہوا۔



English Urdu Sentences – SET 8

What can be done now?

اب کیا کیا جا سکتا ہے۔

Won't you go?

تم جاؤ گے نہیں؟

No, I don't dance.

نہیں میں نہیں ناچتی۔

May I use your phone?

کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟

We are in midst of trouble.

ہم خطرے میں گھرے ہیں۔

The bridge is over the river.

پل ندی کے اوپر ہے۔



English Urdu Sentences – SET 8

Speak your mind.

اپنے دل کی بات کہو۔

Whom does she want to meet?

اسے کس سے ملنا ہے؟

That is her dairy.

وہ اسکی دائری ہے۔

We are here inhabitants.

ہم اسکے باشندے ہیں۔

The book is on the table.

کتاب صندوق کے اوپر ہے۔

I won't do that either.

میں بھی یہ نہیں کروں گا۔



English Urdu Sentences – SET 9

Will you do one thing?

ایک کام کرو گے؟

May I use your phone?

کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟

We are in midst of trouble.

ہم خطرے میں گھرے ہیں۔

What can I do for you?

میں آپ کی کیا خدمت کروں؟

What brings you here?

کیسے تکلیف کی؟

Don't take long.

دیر مت لگانا۔



English Urdu Sentences – SET 9

I have given up painting.

میں نے پینٹنگ چھوڑ دی ہے۔

The scenery here is nice.

یہاں کے منظر خوبصورت ہیں۔

They are my marble.

وہ میرے کنجے ہیں۔

Come in please.

اندر آئیے۔

Look! Who is here?

دیکھو کون ہے؟

See you again.

اچھا پھر ملیں گے۔



English Urdu Sentences – SET 9

Nice journey.

آپ کا سفر اچھا ہو۔

The Taj was built at an enormous cost.

تاج محل بہت خرچ کر کے بنوایا گیا۔

What a cold night it is!

رات کو کتنی ٹھنڈ ہے۔

Great men don't waste their time.

بڑے لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔

Should I bring it?

میں لاؤں؟

I won't do that either.

میں بھی یہ نہیں کروں گا۔



English Urdu Sentences – SET 9

Is the boss in?

کیا صاحب اندر ہیں؟

Why have you dropped your study?

تم نے پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟

They are my marble.

وہ میرے کنچے ہیں۔

Either you or your brother is guilty.

تم اور تمہارا بھائی مجرم ہیں۔

Can anybody bear such an insult?

کوئی اتنی ذلت سہہ سکتا ہے کیا؟

That is her dairy.

وہ اسکی دائری ہے۔



English Urdu Sentences – SET 10

How far is Karachi from here?

یہاں سے کراچی کتنا دور ہے؟

I have already written to him / her.

میں نے اسے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔

Don't cut jokes.

مذاق مت کرنا۔

He is well versed in music.

وہ گانے میں ماہر ہے۔

We are in midst of trouble.

ہم خطرے میں گھرے ہیں۔

Please keep in touch.

رابطہ بنائے رکھیے گا۔



English Urdu Sentences – SET 10

He is a man of principle.

وہ اصول پسند آدمی ہے۔

Let me see.

مجھے دیکھنے دو۔

Whoever who is the best will get prize.

جو کوئی سب سے عمدہ رہے گا اسے انعام دیا جائے گا۔

He stood beside of his brother.

وہ اپنے بھائی کے پاس کھڑا ہوا۔

Will you do one thing?

ایک کام کرو گے؟

Whom does she want to meet?

اسے کس سے ملنا ہے؟



English Urdu Sentences – SET 10

I couldn't make it in time.

میں مقررہ وقت پر نہیں آسکا۔

Think before you speak.

سوچ سمجھ کر بولو۔

The loin was killed by hunter.

شیر شکاری کے ذریعے مارا گیا۔

He is an editor.

وہ ایڈیٹر ہے۔

She will come here soon.

وہ جلدی یہاں آئے گی۔

Don't talk nonsense.

بے ہودا نہ بکو۔



English Urdu Sentences – SET 10

He went into the room.

وہ کمرے میں گیا۔

Go back.

واپس جاؤ۔

Is it exactly half of that?

کیا یہ اسکا صحیح آدھا ہے؟

Those shops are theirs.

وہ دکانیں انکی ہیں۔

Can anybody bear such an insult?

کوئی اتنی ذلت سے سکتا ہے کیا؟

I will never forgive him.

میں اسے کبھی معاف نہیں کرونگا۔



English Urdu Sentences – SET 11

Thanks for inviting us to dinner.

کھانے کے لئے آپ کی دعوت کا شکریہ۔

May luck always shine on you.

آپ کی قسمت ہمیشہ مسکرائے۔

Leave that to me.

یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔

From my point of view.

میرے نقطہ نظر سے۔

Get the money changed.

پیسے تڑواؤ۔

Touch wood!

کہیں نظر نہ لگ جائے!



English Urdu Sentences – SET 11

Do come tomorrow.

کل لازمی آنا۔

Both my hands have been injured.

میرے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔

Ali lives from hand to mouth.

علی کا گزر بسر بہت مشکل ہے۔

I am feeling hungry.

مجھے بھوک لگ رہی ہے۔

Not yet.

ابھی تک نہیں۔

I will never forgive him.

میں اسے کبھی معاف نہیں کرونگا۔



English Urdu Sentences – SET 11

We'll try to come in time.
ہم وقت پر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔

I may have well take tea.
میں بھی چائے پی سکتا ہوں۔

Would that he got well.
کاش وہ صحت یاب ہو جائے۔

All are requested to reach in time.
سب ہی سے درخواست ہے کہ وقت پر پہنچیں۔

There you are mistaken.
یہ ہی تم غلطی کرتی ہو۔

Boats are flying over the bridge.
کشتیاں پل کے نیچے ہیں۔



English Urdu Sentences – SET 11

I got wind of this matter.

مجھے اس بات کا پتہ چل گیا۔

Let's go by bus.

چلو بس میں چلیں۔

It can't be arranged.

اس کا انتظام نہیں ہو سکتا۔

I'll make you laugh a lot.

میں تمہیں بہت ہنساؤنگا۔

How far is it?

کتنی دور ہے؟

They are foreign

وہ غیر ملکی ہیں۔



English Urdu Sentences – SET 12

Who's she to you?

وہ تمہاری کون لگتی ہے؟

It is sunny today?

آج سورج نکلا ہوا ہے۔

She was left watching.

وہ دیکھتی رہ گئی۔

What will you there?

تم وہاں کیا کرو گے؟

Don't mimic me.

میری نقل نہ اتارو۔

Go straight!

سیدھا جاؤ۔



English Urdu Sentences – SET 12

پچھے تو دیکھو۔

Look back.

They might have informed us.

انہوں نے ہمیں اطلاع تو دی ہوتی۔

Me too.

میں بھی۔

I was enjoying myself there.

میں وہاں مزے کر رہا تھا۔

How did you return?

تم کیسے واپس ہوئے؟

She had me cut the grass.

انہوں نے مجھ سے گھاس کٹوائی۔



English Urdu Sentences – SET 12

Who's she to you?

وہ تمہاری کون لگتی ہے؟

It is sunny today?

آج سورج نکلا ہوا ہے۔

She was left watching.

وہ دیکھتی رہ گئی۔

What will you there?

تم وہاں کیا کرو گے؟

Don't mimic me.

میری نقل نہ اتارو۔

Go straight!

سیدھا جاؤ۔

